مدرس کے لیے ہدایت

باب 1: ترقی

ترقی کے بہت سے پہلو ہیں۔ اس باب کا مقصد طلبا کو ترقی کے اس تصور کو سمجھنے کا اہل بنانا ہے۔ انھیں یہ سمجھانا ہے کہ ترقی کے موضوع پر لوگوں کے مختلف نظریات ہیں اور ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم ترقی کے لیے مشترک علامتوں پر پہنچ سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ان صورتِ حال کا استعمال کرنا چاہیے جن سے وہ وجدانی انداز میں اس کا جوابی عمل پیش کرسکیں۔ ہمیں تجزیہ بھی پیش کرنا چاہیے جو فطرتاً زیادہ پیچیدہ اور تفصیلی نوعیت کا ہو۔

کچھ منتخب ترقیاتی دلیلوں کا استعمال کرتے ہوئے ملکوں یا ریاستوں کا موازنہ کس طرح کیا جاسکتا ہے ایک سوال یہ بھی ہے جس کے بارے میں طلبا اس باب میں پڑھیں گے۔ معاشی ترقی کی پیائش کی جاسکتی ہے اور ترقی کی پیائش کے لیے آمدنی نہایت عام طریقہ ہے۔ تاہم آمدنی کا طریقہ اگرچہ مفید ہے لیکن متعدد خامیاں ہیں۔ لہٰذا ہمیں معیارِ زندگی اور ماحولیاتی تحفظ پسندی کی دلیلوں کا استعمال کرتے ہوئے ترقی پر نئے نئے طریقوں سے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔

طلبا سے یہ توقع ضرور رکھیں کہ کلاس روم میں وہ سرگرمی کے ساتھ جواب دیں گے۔ اور ایسے مذکورہ موضوع پر خیالات ورائے میں کافی تنوع اور بحث کا امکان بھی ہوسکتا ہے۔ طلبا کو اپنا نقطہ نظر پیش کرنے میں دلیل دینے کا موقع دیں۔ ہر سیکشن کے آخر میں کچھ سوالات اور سرگرمیاں دی گئی ہیں ان سے دو مقاصد پورے ہوتے ہیں: بھلے وہ جن سے بحث کیے گئے خیالات کو دہرا سکیں گے دوسرے طلبا کو ان کی حقیقی زندگی سے قریب لانے کے ذریعے بحث کیے گئے مرکزی خیالات کو بہتر طور پر سمجھنے کے اہل بنا سکیں گے۔

اس باب میں کچھ اصطلاحات کا استعمال کیا گیا ہے جس کی وضاحت کی ضرورت ہوگی جیسے فی کس آمدنی، شرح خواندگی، بچوں کی شرح اموات، حاضری تناسب، امکان زندگی، مجموعی اندراج کی نسبت اور انسانی ترقی اعشاریہ۔ اگرچہ ان اصطلاحات سے متعلق ڈیٹا فراہم کیا گیا ہے تاہم ہمیں مزید وضاحت پیش کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو قوت خرید مساوات کے تصور کی وضاحت کی بھی ضرورت ہوسکتی ہے جس کا استعمال جدول 1.6 میں فی کس آمدنی کا شمار کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ان اصطلاحات کا استعمال مباحثے میں مددگار ہونے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ یاد کرنے یا رٹنے کی چیز نہیں ہے۔

معلومات کے لیے ماخذ

اس باب کا مواد حکومت ہند کی رپورٹ Report of the National Family Health Survey and Handbook of Statistics on the Indian Economy (Economic survey) اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام (Human Development Report) اور عالمی بینک (World Development Indicators) سے ان رپورٹوں کو ہر سال شائع کیا جاتا ہے اگر یہ آپ کے اسکول کی لائبریری میں دستیاب ہیں تو ان کو دیکھنا دلچسپ ہوسکتا ہے۔ اگر آپ کی اسکول لائبریری میں دستیاب نہیں ہے تو ان اداروں کی ویب سائٹ (www.undp.org.www.bugetindia.nic.in; www.worldbank.org) پر لاگ آن کرسکتے ہیں۔ ڈاٹا ریزو بینک کی ویب سائٹ www.rbi.org میں Hand book of Statistics on Indian Economy سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

© NCERT not to be republished

باب 1
ترقی

ترقی یا بہتری کی طرف آگے بڑھنے کا تصور ہمارے ساتھ ہمیشہ رہا ہے۔ ہم کیا کرنا چاہیں گے اور کس طرح زندگی گزارنا چاہیں گے، اس کے بارے میں بھی ہماری آرزو یا خواہشات ہوتی ہیں۔ اسی طرح ملک کے لیے کیا بہتر ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس تصورات ہوتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں؟ کیا سبھی کے لیے زندگی بہتر ہوسکتی ہے؟ لوگوں کو ایک ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ کیا اور زیادہ مساوات ممکن ہے؟ ترقی کے لیے ان سوالوں کے بارے میں اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کی جانب ہم جو کام کرسکتے ہیں، ان کے طریقوں کے بارے میں سوچنے کا عمل شامل ہوتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ کام ہے اس باب میں ہم ترقی کو سمجھنے کی سعی کریں گے۔ بڑی کلاسوں میں ان امور کا ہم زیادہ گہرائی سے مطالعہ کریں گے۔ ان میں سے بہت سے سوالوں کے جوابات آپ نہ صرف معاشیات میں بلکہ تاریخ وسیاسیات میں بھی دریافت کرسکیں گے۔ ایسا اس لیے ہے کہ جو زندگی آج ہم گزارتے ہیں اس پر ماضی کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح صرف ایک جمہوری سیاسی عمل کے ذریعے ہی حقیقی زندگی میں ان امیدوں اور امکانات کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔

''میرے بغیر وہ ترقی نہیں کرسکتے....
اس نظام میں میں ترقی نہیں کرسکتا!''

© NCERT not to be republished

مختلف لوگ، مختلف مقاصد۔ترقیات سے کیا توقعات وابستہ ہیں

جدول 1.1 میں درج فہرست مختلف افراد کے لیے ترقی یا بہتری کی طرف آگے بڑھنے کا کیا مفہوم ہوسکتا ہے ان کی کیا خواہشات ہیں؟ آیئے اس بارے میں قیاس کریں۔ آپ پائیں گے کہ کچھ کالم جزوی طور پر پُر ہیں۔ جدول کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔آپ افراد کے کسی اور بھی زمرے کو شامل کر سکتے ہیں۔

جدول 1.1 مختلف زمروں کے افراد کے ترقیاتی مقاصد

فرد کا زمرہ	ترقیاتی مقاصد/خواہشات
بے زمین دیہی مزدور پنجاب کے خوشحال کسان فیملی کی عمدہ انکم اور ان کے فصلوں سے آنے والے بہترین فائدے پر سخت محنت اور سستی مزدوری کی بدولت وہ اس لائق ہو گئے کہ انھوں نے اپنے بچوں کو بیرون ملک سیٹ کر دیا۔	کام کے زیادہ سے زیادہ دن اور بہتر اجرتیں، مقامی اسکول کے بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کا اہل ہے، کوئی سماجی تفریق نہیں ہے اور وہ بھی گاؤں میں قائد بن سکتے ہیں۔
وہ کسان جو فصلوں کو اگانے کے لیے صرف بارش پر انحصار کرتے ہیں	
زمین کی ملکیت رکھنے والی فیملی کی ایک دیہی خاتون	
شہر کا بے روزگار نوجوان	
شہر کے امیر خاندان کا ایک لڑکا	
شہر کے امیر خاندان کی ایک لڑکی	وہ اپنے بھائی کی طرح ہی زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل کرتی ہے اور زندگی میں جو چاہتی ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے۔ وہ بیرون ملک اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہے۔
نرمدا وادی کا ایک آدی واسی	

© NCERT not to be republished

جدول 1.1 کو پُر کرتے ہوئے آیئے ہم اب اس کا جائزہ لیں۔ کیا ان سبھی افراد کے لیے ترقی یا آگے بڑھنے کا یکساں تصور ہے؟ غالباً نہیں۔ ان میں ہر ایک مختلف چیزوں کی جستجو کرتا ہے۔ وہ انھیں چیزوں کی جستجو کرتا ہے جو کہ اس کے لیے زیادہ اہم ہیں۔ یعنی جو ان کی خواہشات یا آرزو کی تکمیل کر سکتی ہیں۔ درحقیقت، کبھی کبھی، دو افراد یا افراد کے گروپ ان چیزوں کی جستجو کر سکتے ہیں جو متضاد ہوں، ایک لڑکی اپنے بھائی کی طرح ہی زیادہ سے زیادہ آزادی اور مواقع کی امید کرتی ہے

اور یہ کہ وہ اس کے گھریلو کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ اس کا بھائی ممکن ہے یہ نہ پسند کرے۔ اسی طرح زیادہ بجلی حاصل کرنے کے لیے صنعت کار زیادہ بند یا پشتوں (dams) کی خواہش کرسکتا ہے۔ لیکن اس سے زمین غرقاب ہوسکتی ہے اور اس جگہ سے ہٹائے جانے والے لوگوں جیسے قبایلیوں کی زندگیوں میں خلل پڑسکتا ہے۔ وہ اس سے ناراض ہوسکتے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے پشتوں یا تالابوں کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ جس سے کہ ان کی زمین کی آبپاشی ہوسکے۔

لہٰذا، دو باتیں بالکل صاف ہیں: پہلی مختلف افراد کے مختلف ترقیاتی مقاصد ہوسکتے ہیں اور دوسری ایک کے لیے جو ترقی ہوسکتی ہے وہ ممکن ہے دوسرے کے لیے ترقی نہ ہو۔ یہ دوسرے کے لیے تخریبی بھی ہوسکتی ہے۔

فصلوں یا ان کے ذریعے تیار کی جانے والی دیگر اشیا کی اچھی قیمت کی خواہش رکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ زیادہ سے زیادہ آمدنی چاہتے ہیں۔ زیادہ آمدنی کے جستجو کے علاوہ کسی نہ کسی طرح لوگ مساوی برتاؤ، آزادی، تحفظ وسلامتی اور دوسروں سے عزت حاصل کرنے جیسی باتوں کی بھی جستجو کرتے ہیں۔ وہ تفریق یا امتیاز کیے جانے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ سبھی اہم مقاصد ہیں۔ درحقیقت کچھ معاملوں میں تو یہ زیادہ آمدنی یا زیادہ صرف کی نسبت زیادہ اہم ہوسکتی ہیں کیونکہ مادی اشیا وہ سب کچھ نہیں ہے جس کی ضرورت زندگی گزارنے کے لیے آپ کو ہے۔

زر یا رقم یا مادی چیزیں جسے کوئی اس کے ساتھ خرید سکتا ہے، ایک عامل ہے جس پر ہماری زندگی منحصر ہے۔ لیکن ہماری زندگی کا معیار اوپر ذکر کی گئی غیر مادی چیزوں پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ کے لیے واضح نہیں ہے تو اپنی زندگی میں آنے والے اپنے دوستوں کے بارے میں سوچئے۔ آپ ان کی دوستی کی خواہش کرسکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن

آمدنی اور دیگر مقاصد

اگر آپ جدول 1.1 پر پھر نظر ڈالیں تو آپ ایک مشترک بات پر غور کریں گے: یہ کہ لوگ باقاعدہ کام، بہتر اجرتیں اور اپنی

کی پیمائش آسانی سے نہیں کی جاسکتی لیکن ہماری زندگی میں ان کی کافی اہمیت ہے۔ انہیں اکثر نظر انداز کردیا جاتا ہے۔

نربداندی پر سردار سرور باندھ کی اونچائی بڑھانے کے خلاف احتجاجی جلسہ۔

© NCERT not to be republished

بہر حال یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا کہ جس کی پیمائش نہیں کی جاسکتی وہ اہم نہیں ہے۔

ایک اور مثال سمجھیں۔ اگر آپ ایک دور دراز کی جگہ پر ماحول سے عورتیں مختلف قسم کی ملازمت اختیار کر سکتی ہیں یا اپنا کوئی کاروبار چلا سکتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے لیے ترقیاتی مقاصد میں نہ صرف بہتر آمدنی شامل ہوتی ہے بلکہ زندگی میں دیگر اہم

آیئے حل کریں

-1 مختلف افراد کے لیے ترقی کے مختلف تصورات کیوں ہیں؟ درج ذیل توضیحات میں کون سی اہم ہیں اور کیوں؟

a) کیونکہ لوگ مختلف ہیں۔

b) کیونکہ افراد کے حالاتِ زندگی مختلف ہیں۔

-2 درج ذیل دو بیانات کیا ایک جیسے ہیں؟ اپنے جواب کا مناسب جواز فراہم کیجیے۔

a) لوگوں کے مختلف ترقیاتی مقاصد ہیں۔

b) لوگوں کے متضاد ترقیاتی مقاصد ہیں۔

-3 کچھ مثالیں دیجیے جہاں آمدنی کے علاوہ دیگر عوامل ہماری زندگی کے اہم پہلو ہیں۔

-4 درج بالا سیکشن میں سے کچھ اہم تصورات کی وضاحت اپنے الفاظ میں کیجیے۔

قومی ترقی

ملازمت حاصل کرتے ہیں تب اسے قبول کرنے سے پہلے آپ آمدنی کے علاوہ بہت سے عوامل کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ آپ کی فیملی کے لیے سہولیات، کام کا ماحول یا تعلیم کے مواقع، دوسرے معاملے میں کسی ملازمت میں آپ کو کم تنخواہ مل سکتی ہے لیکن یہ آپ کے لیے باقاعدہ روزگار کی پیشکش ہو سکتی ہے۔ جس سے آپ کے تحفظ کے احساس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسری ملازمت میں بہر حال اونچی تنخواہ مل سکتی ہے لیکن ملازمت کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اور اس میں آپ کی فیملی کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ اس سے آپ کے تحفظ کے احساس اور آزادی میں کمی پیدا ہوگی۔

اسی طرح ترقی کے لیے لوگ مختلف مقاصد پر غور کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اگر عورتیں اجرتی کام میں لگی ہوئی ہیں تب گھر اور سماج میں ان کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم یہ امر بھی ہے کہ اگر عورتوں کے لیے احترام کا جذبہ ہے تو گھریلو کام میں زیادہ ساجھے داری ہوگی اور باہر عورتوں کے کام کو زیادہ قبولیت بھی ہوگی۔ ایک محفوظ اور خطرے یا خوف سے بری چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔

جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ افراد مختلف مقاصد کی جستجو کرتے ہیں تب قومی ترقی کے ان کے تصور بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپس میں بحث کیجیے کہ ترقی کے لیے ہندوستان کو کیا کرنا چاہیے۔

زیادہ ممکن ہے کہ آپ پائیں گے کہ کلاس میں مختلف طلبا نے درج بالا سوالات کے جواب مختلف دیے ہوں درحقیقت آپ خود بہت سے الگ الگ جوابات سوچ سکتے ہیں اور ان میں سے کسی کے بارے میں پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتے۔ یہ خود ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ مختلف افراد کے ملک کی ترقی کے مختلف اور متضاد تصورات ہو سکتے ہیں۔

تاہم کیا سبھی خیالات کو مساوی طور پر اہم سمجھا جا سکتا ہے؟ یا اگر کوئی تضاد ہے تو کوئی کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ سب کے لیے منصفانہ اور معقول راہ کیا ہوگی؟ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا کام کرنے کا کوئی بہتر طریقہ ہے۔ کیا یہ تصور کافی تعداد میں لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا یا کسی چھوٹے گروپ کو؟ قومی ترقی کا مطلب ہے ان سوالوں کے بارے میں سوچنا۔

© NCERT not to be republished

آیئے حل کریں

درج ذیل حالات کے بارے میں بحث کیجیے۔

1- بائیں جانب تصویر پر نظر ڈالیں۔ایسے علاقے کے لیے ترقیاتی مقاصد کیا ہونے چاہیئے؟



2- اخبار کی یہ رپورٹ پڑھیں اور درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔

500 ٹن زہریلے سیال فضلات سے بھرے کنٹینر نے شہر اور آس پاس کے علاقے کے میدان میں کوڑے کا ڈھیر کر دیا۔ایسا آئیوری کوسٹ میں عابدجان (Abidjan) نام کے شہر میں واقع ہوا۔انتہائی زہریلے فضلے سے نکلنے والے بخارات سے متلی، جلد میں نمودار چکتے، چکر، اسہال وغیرہ جیسی بیماریاں پیدا ہوئیں۔ایک مہینے کے بعد سات لوگوں کی موت واقع ہوگئی، بیس اسپتال میں پہنچ گئے اور چھبیس ہزار لوگوں کو زہر خورانی کی علامتوں کا علاج کیا گیا۔

ایک کثیر قوی کمپنی جس کا پٹرولیم اور دھاتوں کا کام تھا، اس نے آیوری کوسٹ کی مقامی کمپنی سے معاہدہ کیا کہ وہ اس کے جہاز سے زہریلے فضلے کو ٹھکانے لگا دیا کرے۔

© NCERT not to be republished

(i) وہ کون لوگ ہیں جنھیں فائدہ ہوا اور کن کو نہیں ہوا؟

(ii) اس ملک کے لیے ترقیاتی مقاصد کیا ہونے چاہیئے؟

3- تمہارے گاؤں، قصبہ یا آبادی کے لیے کون سے ترقیاتی مقاصد ہو سکتے ہیں؟

سرگرمی 1

اگر وہ تصور جو ترقی کی تشکیل کرتے ہیں مختلف اور متضاد ہو سکتے ہیں۔تو ظاہر ہے ترقی کرنے کے طریقوں کے بارے میں یقیناً اختلافات ہو سکتے ہیں۔اگر آپ کسی ایسے تنازعہ کے بارے میں جانتے ہیں تو مختلف لوگوں کے ذریعے دیے جانے والے دلائل دریافت کرنے کی کوشش کیجیے۔آپ مختلف لوگوں سے بات چیت کر کے یا اخباروں اور ٹیلی ویژن سے اسے دریافت کر سکتے ہیں۔

مختلف ملکوں یا ریاستوں کا موازنہ کیسے کریں؟

آپ پوچھیں گے اگر ترقی کا مطلب مختلف چیزیں ہوسکتی ہیں تو کس بنیاد پر کچھ ممالک کو عام طور پر ترقی یافتہ اور دوسروں کو کم ترقی یافتہ کہا جاتا ہے؟ اس پر ہم بات کریں، اس سے پہلے ہم دوسرے سوال پر غور کریں۔

جب ہم مختلف چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں تو ان میں یکسانیت یا مماثلت کے ساتھ اختلافات بھی ہوسکتے ہیں۔ وہ کون سے پہلو ہیں جن کا استعمال ہم موازنہ کے لیے کرتے ہیں؟ خود کلاس میں طلبا پر ایک نظر ڈالیں۔ ہم مختلف طلبا کا موازنہ کیسے کریں؟ قد، صحت، ذہانت اور دلچسپیوں کے لحاظ سے ان میں فرق ہے۔ بہت زیادہ صحت مند طالب علم ممکن ہے پڑھائی میں زیادہ دلچسپی رکھنے والا نہ ہو۔ لہٰذا ہم کس طرح طلبا کا موازنہ کرسکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم جانچ پرکھ کر معیار کا استعمال کرسکتے ہیں جو کہ موازنے کے مقصد پر منحصر ہے ہم اسپورٹس ٹیم، بحث ومباحثے کی ٹیم، موسیقی ٹیم، پکنک کے انتظام کے لیے، ٹیم کے انتخاب کے لیے مختلف کسوٹی کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر بھی کسی مقصد کے لیے ہمیں کلاس میں بچوں کی ہمہ گیر پیش رفت یا ترقی کی کسوٹی کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟

عام طور پر ہم افراد کی ایک یا زیادہ اہم خصوصیات لیتے ہیں اور ان خصوصیات کی بنیاد پر موازنہ کرتے ہیں۔ وہ اہم خصوصیات جیسے دوستانہ روش، تعاون کا جذبہ، تخلیقیت یا حاصل کیے گئے نمبرات، جو موازنے کے لیے بنیاد کی تشکیل کرسکتی ہیں ان میں یقیناً اختلاف ہوسکتا ہے۔

ترقی کے سلسلے میں بھی یہ بات صحیح ہے۔ ملکوں کے موازنے کے لیے ان کی آمدنی کو ایک نہایت اہم وصف یا خصوصیت سمجھا جاتا ہے۔ ممالک جن کی آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ کم آمدنی والے دیگر ملکوں کی نسبت زیادہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔ یہ اس فہم کی بنیاد پر ہے کہ زیادہ آمدنی کا مطلب ہے انسانی ضرورت کی زیادہ تر چیزوں کا مہیا ہونا۔ جو کچھ بھی لوگ چاہتے ہوں ان کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر انھیں زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے تو وہ اسے حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ لہٰذا خود آمدنی کے زیادہ ہونے کو ایک اہم مقصد سمجھا جاتا ہے۔

اب ملک کی آمدنی کیا ہے؟ فوری سمجھ میں آنے والی بات یہی ہے کہ ملک کے رہنے والے سبھی لوگوں کی آمدنی سے اس ملک کی کل آمدنی کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔

تاہم ملکوں کے درمیان موازنے کے لیے کل آمدنی ایسی کوئی مفید پیائش نہیں ہے، کیونکہ ملکوں کی مختلف آبادیاں ہوتی ہیں لہٰذا کل آمدنی کے موازنے سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ایک فرد اوسطاً کیا کماتا ہوگا۔ کیا کسی ملک کے لوگ دیگر ملک میں رہنے والے لوگوں کے مقابلے بہتر مالی حیثیت میں ہیں۔ لہٰذا ہم اوسط آمدنی کا موازنہ کرتے ہیں جو کہ ملک کی کل آمدنی کو اس کی کل آبادی سے تقسیم کرنے کے ذریعے نکلتی ہے۔ اوسط آمدنی کو فی کس آمدنی (Per Capita Income) کہا جاتا ہے۔

عالمی بینک (world bank) کے ذریعے پیش کردہ عالمی ترقیاتی رپورٹ میں ملکوں کی درجہ بندی میں اس کسوٹی کا استعمال کیا گیا ہے کہ وہ ممالک جن کی فی کس سالانہ آمدنی 2017 میں 12056 امریکی ڈالر یا اس سے زیادہ تھی انھیں امیر ممالک کہا جاتا ہے اور وہ جن کی فی کس سالانہ آمدنی 995 امریکی ڈالر یا اس سے کم تھی اسے کم آمدنی والے ممالک کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کا شمار اوسط کم آمدنی والے ملکوں کے زمرے میں آتا ہے کیوں کہ اس کی فی کس آمدنی 2017 میں محض 1820 امریکی ڈالر سالانہ تھی۔ مشرق وسطی اور بعض دیگر چھوٹے ممالک کو نہ شامل کرتے ہوئے اونچی آمدنی والے ملکوں کو ترقی یافتہ ممالک کہا جاتا ہے۔

© NCERT not to be republished

اوسط آمدنی

اوسط آمدنی موازنے کے لیے جہاں مفید ہے وہیں اس میں عدم مساوات بھی چھپا ہوا ہے۔

مثال کے لیے دو ملکوں A اور B کو سمجھیں، آسانی کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہر ایک ملک میں صرف پانچ پانچ شہری ہیں۔ جدول 1.2 میں دیے گئے مواد کی بنیاد پر دونوں ملکوں کے لیے اوسط آمدنی کا شمار کریں۔

جدول 1.2 دو ملکوں کا موازنہ

ملک	2012 میں شہریوں کی ماہانہ آمدنی (روپیے میں)					
	I	II	III	IV	V	اوسط
ملک A	9500	10500	9800	10,000	10,200	
ملک B	500	500	500	500	48,000	

کیا آپ ان دونوں ملکوں میں رہنے سے مساوی طور پر خوش ہوں گے؟ کیا دونوں ہی مساوی طور پر ترقی یافتہ ہیں؟ ہوسکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ ملک B میں رہنا پسند کریں بشرطیکہ ہمیں اس کے پانچویں شہری ہونے کو یقینی بنایا جائے۔ لیکن اگر قرعہ اندازی کے ذریعے ہماری شہریت کے عدد کا فیصلہ کیا جاتا ہے تب ہم میں سے اکثر لوگ ملک A میں رہنے کو ترجیح دیں گے خواہ دونوں ملکوں کی اوسط آمدنی ایک جیسی ہے۔ ملک A کو ترجیح اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ اس میں زیادہ منصفانہ تقسیم پائی جاتی ہے۔ اس ملک میں لوگ نہ تو بہت امیر ہیں اور نہ ہی انتہائی غریب۔ جب کہ دوسری طرف ملک B میں زیادہ تر شہری غریب اور ایک شخص نہایت ہی امیر۔ لہذا جب کہ اوسط آمدنی موازنے کے لیے کارگر ہے وہیں اس سے ہمیں لوگوں کے درمیان آمدنی کی تقسیم کا پتہ نہیں چلتا۔

© NCERT not to be republished

ملک جس میں نہ امیر اور نہ ہی غریب ہیں

ملک جس میں امیر اور غریب دونوں ہیں۔

آیئے حل کریں

1- حالات کے موازنے کے لیے کہاں اوسط کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تین مثالیں دیجیے۔

2- ترقی کے لیے اوسط آمدنی کیوں اہم کسوٹی ہے؟ وضاحت کیجیے۔

3- دو یا دو سے زیادہ سوسائٹیوں کے موازنے میں فی کس آمدنی کے حجم کے علاوہ آمدنی کی دیگر خصوصیت کیوں اہم ہے؟

4- بالفرض کسی ملک میں ریکارڈ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اوسط آمدنی کسی ایک مدت کے دوران بڑھتی رہی ہے اس سے کیا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ معیشت کے سبھی طبقات بہتر ہو گئے ہیں؟ ایک مثال کے ساتھ اپنا جواب سمجھائیں۔

5- متن سے عالمی ترقیاتی رپورٹ کے لحاظ سے اوسط آمدنی والے ممالک کی فی کس آمدنی کی سطح دریافت کیجیے۔

6- آپ تصور کر کے ایک پیراگراف لکھیے کہ ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے کیا کرنا یا حاصل کرنا چاہیے۔

آمدنی اور دیگر کسوٹی

جدول 1.3 منتخب ریاستوں کی فی کس آمدنی

ریاست	2015-16 میں فی کس آمدنی (روپے)
ہریانہ	1,62,034
کیرل	140190
بہار	31454

ماخذ: اکنامک سروے 18-2017، جلد 2، صفحہ 30

جب ہم کسی فرد کی آرزوؤں اور مقاصد پر نظر ڈالتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نہ صرف بہتر آمدنی کے بارے میں سوچتے ہیں بلکہ تحفظ، دوسروں کے لیے احترام، مساوی برتاؤ، آزادی جیسے مقاصد بھی ذہن میں ہوتے ہیں اسی طرح جب ہم کسی ملک یا خطے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم اوسط آمدنی کے علاوہ دیگر مساوی اہم خصوصیات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔

یہ خصوصیات کیا ہو سکتی ہیں؟ آیئے ایک مثال کے ذریعے اس کا جائزہ لیں۔ جدول 1.3 ہریانہ، کیرل اور بہار کی فی کس آمدنی پیش کرتا ہے اصل میں یہ اعداد و شمار 16-2015 کے لیے رواں قیمتوں پر فی کس خالص ریاستی گھریلو پیداوار کے ہیں۔ ہم اسے چھوڑ دیں کہ اس پیچیدہ اصطلاح کے اصل معنی کیا ہیں۔ موٹے طور پر ہم ریاست کی فی کس آمدنی کے طور پر لے سکتے ہیں۔ ہم ان میں تین پاتیں ہیں۔ ہریانہ کی فی کس آمدنی سب سے زیادہ ہے، اور بہار کی سب سے کم یعنی نچلی سطح پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہریانہ میں ایک شخص اوسطاً 1,62,034 روپیے سالانہ کماتا ہے۔ جب کہ بہار میں ایک فرد تقریباً 31,454 روپیے ہی کما سکے گا لہٰذا اگر فی کس آمدنی کا ترقی کی کسوٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو ان تینوں ریاستوں میں مہاراشٹر کو زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جائے گا اور بہار کو سب سے کم ترقی یافتہ۔ اب جدول 1.4 میں ان ریاستوں سے متعلق دیے گئے بعض دیگر مواد پر نظر ڈالیں۔

اس جدول سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جدول کے پہلے کالم

جدول 1.4 مہاراشٹر، کیرل اور بہار پر کچھ تقابلی مواد

ریاست	بچوں کی شرح اموات فی 1,000 (2016)	شرح خواندگی % (2011) (P)	کلاس میں خالص حاضری تناسب سیکنڈری اسٹیج (عمر 14 سے 15 سال) 2013-14
ہریانہ	33	82	61
کیرل	10	94	83
بہار	38	62	43

(P) پروفیزنل

ماخذ: اکونومک سروے، 18-2017، نیشنل سیمپل سروے آرگینائزیشن (رپورٹ نمبر 575)، نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 4-16-2015

اس جدول میں استعمال کی جانے والی کچھ اصطلاحات کی وضاحت بچوں کی شرح اموات Infant Mortality Rate (or IMR):

اس اصطلاح سے بچوں کی اس تعداد کا پتہ چلتا ہے جن کی موت اس مخصوص سال میں پیدا ہوئے زندہ بچوں کی 1000 کی تعداد کے تناسب میں ایک سال کی عمر ہونے سے پہلے واقع ہوتی ہے۔

شرح خواندگی (Literacy Rate): 7 اور اس سے زیادہ کی عمر والوں میں خواندہ (پڑھے لکھے) آبادی کے تناسب کی پیائش ہوتی ہے۔

خالص حاضری تناسب (Net Attendance Ratio): 14 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کی کل تعداد جو اس عمر کے بچوں کی کل تعداد کے فی صد کے طور پر اسکول جانے والوں کی تعداد ہے۔

© NCERT not to be republished

سے پتہ چلتا ہے کہ کیرل میں پیدا ہوئے 1000 زندہ بچوں میں سے 6 کی موت ایک سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے واقع ہوتی ہے لیکن ہریانہ میں پیدائش کا ایک سال پورا ہونے سے پہلے مرنے والے بچوں کا تناسب 33 ہے جو کہ تقریباً پانچ گنا زیادہ ہے۔ جب کہ ہریانہ کی فی کس آمدنی کیرل کے مقابلے بہت زیادہ ہے جیسا کہ جدول 1.3 میں دکھایا گیا ہے۔ ذرا سوچیے کہ آپ اپنے والدین کے کتنے عزیز ہیں اور یہ بھی سوچیے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہر ایک کتنا خوش ہوتا ہے۔ اب ذرا ان والدین کے بارے میں سوچیے جن کے بچے ان کا پہلے جنم دن منانے سے پہلے ہی مرجاتے ہیں۔ ان والدین کے لیے یہ کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے؟ اب اس سال پر غور کریئے جو اس مواد سے متعلق ہے۔ یہ سال 2016 ہے۔ ہم پرانے زمانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ آزادی کے 70 سال بعد کی بات ہے جب کہ ہمارے بڑے بڑے شہروں میں اونچی اونچی عمارتیں اور شاپنگ مالس موجود ہیں!

مسئلہ بچوں کی شرح اموات کے ساتھ ہی ختم نہیں ہوتا۔ جدول 1.4 کے آخری کالم سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہار میں 15-14 سال کی عمر کے تقریباً نصف بچوں نے 8 جماعت کے بعد اسکول کا منھ تک نہیں دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بہار کے اسکول میں جائیں تو تقریباً نصف کلاس وہاں ہوتی ہی نہیں یعنی وہ لوگ جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے، وہ وہاں ہیں ہی نہیں؟ اگر یہ آپ کے ساتھ ہوتا تو جو آپ اب اس وقت پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ سکتے تھے۔

بہت سے بچوں کی بنیادی طبی دیکھ بھال نہیں ہوتی

عوامی سہولیات

ایسا کیوں ہے کہ ہریانہ میں اوسط آدمی کے پاس کیرل کے اوسط آدمی کے مقابلے زیادہ آمدنی ہے لیکن ان اہم شعبوں میں وہ کافی پچھڑا ہوا ہے؟ وجہ یہ ہے **آپ کی جیب میں موجود رقم وہ سبھی چیزیں اور خدمات نہیں خرید سکتی جن کی ضرورت بہتر طور پر زندگی گزارنے کے لیے آپ کو پڑ سکتی ہے۔** لہٰذا، آمدنی بذاتِ خود ان مادّی اشیا اور خدمات کا پوری طرح مناسب علامت نہیں ہے جنہیں شہری استعمال کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ رقم یا دولت کے ذریعے آلودگی سے پاک ماحول نہیں خرید سکتے یا یہ یقین نہیں کر سکتے کہ آپ بے ملاوٹ دوائیں حاصل کر رہے ہیں جب تک کہ آپ ان تمام چیزوں کی پہلے سے حامل کمیونٹی میں منتقل ہونے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ دولت آپ کو اس وقت تک انفکشن والی بیماریوں سے تحفظ بھی نہیں فراہم کر سکتی جب تک کہ آپ کی پوری کمیونٹی احتیاطی اور حفاظتی اقدامات نہ اختیار کرے۔

دراصل زندگی کی بہت سی اہم چیزوں کے لیے بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ان اشیا اور خدمات کو اجتماعی طور پر فراہم کیا جائے۔ ذرا سوچیے کہ آیا پورے محلے کے لیے مجموعی حفاظتی انتظامات یا ہر گھر کے لیے اپنا ایک ایک دربان (چوکیدار) رکھنا سستا پڑے گا؟ اگر آپ کے گاؤں یا محلے میں آپ کے علاوہ کوئی اور پڑھنے میں دلچسپی نہ رکھے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ تعلیم کے اہل ہو سکیں گے؟ نہیں اس وقت تک نہیں جب تک کہ آپ کے والدین آپ کو کہیں اور کسی پرائیویٹ اسکول میں بھیجنے کے اہل نہ ہو سکیں۔ اصل میں تعلیم کے لیے آپ اسی لیے اہل ہیں کیونکہ بہت سے دوسرے بچے بھی مطالعے یا پڑھائی کرنا چاہتے ہیں اور کیونکہ بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ حکومت کو اسکول کھولنا چاہیے اور دیگر سہولیات مہیا کرنا چاہیے تاکہ سبھی بچوں کو تعلیم کے مواقع مل سکیں۔ اب بھی بہت سے علاقوں میں بچے بالخصوص لڑکیاں ہائی اسکول تعلیم حاصل کرنے کی اہل نہیں ہیں کیونکہ حکومت یا سماج نے مناسب سہولیات فراہم کی ہیں۔

© NCERT not to be republished

کیرل میں بچوں کی شرح اموت کم ہے کیونکہ وہاں پر مناسب بنیادی صحت اور تعلیمی سہولیات موجود ہیں۔ اسی طرح بعض ریاستوں میں سرکاری راشن کی دوکانوں کا نظام (Public Distribution System PDS) بہتر طور پر کام کررہا ہے۔ ایسی ریاستوں میں لوگوں کی صحت اور تغذیاتی حیثیت یقیناً بہتر ہونی چاہیے۔

آیئے حل کریں

1- جدول 1.3 اور جدول 1.4 میں مواد پر نظر ڈالیں کیا ہریانہ شرح خواندگی وغیرہ میں کیرل سے اس طرح آگے ہے جیسا کہ فی کس آمدنی میں آگے ہے؟

2- دیگر مثالوں کے بارے میں سوچیں جہاں اشیا اور خدمات کا اجتماعی اہتمام انفرادی اہتمام سے بہتر ہوتا ہے۔

3- کیا اچھی صحت اور تعلیم کے لیے سہولیات کی دستیابی حکومت کے ذریعے خرچ کی گئی رقم پر منحصر ہوتی ہیں؟ دیگر متعلقہ عوامل کیا ہوسکتے ہیں؟

4- تمل ناڈ میں 90 فی صد لوگ جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں وہ راشن کی دوکان کا استعمال کرتے ہیں، جب کہ مغربی بنگال میں صرف 35 فی صد دیہی لوگ ایسا کرتے ہیں، کہاں کے لوگ زیادہ بہتر حالت میں ہیں اور کیوں؟

© NCERT not to be republished

سرگرمی 2

جدول 1.5 کا بغور مطالعہ کریں اور درج ذیل پیراگرف میں خالی جگہوں کو پُر کریں۔ اس کے لیے آپ کو جدول کی بنیاد پر حساب کرنے کی ضرورت ہوسکتی ہے۔

جدول 1.5 اتر پردیش کی دیہی آبادی کی تعلیمی حصولیابی

زمرہ	مرد	عورت
دیہی آبادی کی شرح خواندگی	76%	54%
10 تا 14 سال کی عمر کے بچوں کی شرح خواندگی	90%	87%
10 تا 14 سال کی عمر کے اسکول جانے والے دیہی بچوں کا فی صد	85%	82%

a) سب ہی عمر کے (جن میں نوجوان اور بوڑھے بھی شامل ہیں) کی شرح خواندگی دیہی مردوں کی.....ہے اور دیہی عورتوں کی.....ہے۔ تاہم یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ ان میں سے بہت سے بالغ اسکول نہیں جا سکے بلکہ اس وجہ سے بھی ہے کہ بہت سے ایسے..... ہیں جو اب بھی اسکول نہیں جارہے ہیں

b) جدول سے یہ بات واضح ہے کہ دیہی لڑکیوں کا ......% اور دیہی لڑکوں کے ......% لوگ اسکول نہیں جارہے ہیں۔ لہذا 10 تا 14 سال کی عمر بچوں کی شرح خواندگی دیہی عورتوں سے......% زیادہ اور دیہی مردوں سے......% زیادہ ہے۔

c) ......عمر میں خواندگی کی یہ اونچی سطح ہماری آزادی کے 68 سال کے بعد بھی کافی پریشان کن ہے۔ دیگر متعدد ریاستوں میں بھی 14 سال کی عمر تک کے سبھی بچوں کے لیے ہم مفت اور لازمی تعلیم کے آئینی مقصد کی تعمیل کے قریب نہیں ہیں۔ حالانکہ 1960 تک اس کے پورے ہونے کی توقع کی گئی تھی۔

سرگرمی 3

یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا ہم کم تغذیہ کے شکار ہیں۔ایک طریقہ ہے جسے تغذیاتی سائنس دانوں نے جسم کا اشاریہ کمیت (Body Mass Index BMI) کا نام دیا اسے شمار کرنا آسان ہے ۔ درجہ میں ہر طالب علم اپنا وزن اور اونچائی معلوم کرے یہ شمار کلو میں ہو پھر دیوار پر ایک پیمانہ بنا کر سر کو سیدھا رکھتے ہوئے اونچائی کی صحیح پیمائش کرے جو پیمائش سینٹی میٹر میں آتی ہے اسے میٹر میں بدل لیے۔کلو گرام میں درجہ وزن کو اونچائی کے مربع سے تقسیم کیجیے۔

آپ کو جو عدد حاصل ہوگا وہی BMI کہلائے گا۔ اس کتاب کے آخری صفحہ پر عمر کے حساب سے BMI عدد رقم ہے اگر کوئی طالب علم BMI–250 سے 250 کے درمیان میں ہے تو اسے معتدل کہیں گے۔ اگر کوئی -250 سے زیادہ ہے تو وہ کم تغذیہ کا شکار ہے اور اسے زیادہ افزائش کی ضرورت ہے۔بطور مثال اگر ایک طالب علم جس کی عمر 14 سال 8 ماہ ہے اور اس کی BMI 15.2 ہے تو وہ کم تغذیہ کا شکار ہے۔اسی طرح وہ طالب علم جس کی BMI28 ہے اور اس کی عمر 15 سال 6 ماہ ہے تو اس کا وزن اوسط سے زیادہ ہے۔طلبا کی حالات زندگی ، غذا ، جسمانی ریاضت، عادات کو بغیر کسی کو شرمندہ کئے ہوئے اظہار خیال کیجیے۔

انسانی ترقیاتی رپورٹ

گو کہ آمدنی کی سطح اہم ہے تاہم ترقی کی سطح کی یہ پیمائش کافی نہیں ہے۔اس بنا پر ہمیں دیگر کسوٹیوں کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا ۔ ان کسوٹیوں کی ایک لمبی فہرست ہوسکتی ہے تب اس صورت میں یہ زیادہ مفید نہیں ہوگی۔ہمیں زیادہ اہم چیزوں کی ایک چھوٹی فہرست کی ضرورت ہے۔صحت و تعلیم کی علامات جیسا کہ ہم نے کیرل اور مہاراشٹر کے موازنے میں استعمال کیا ہے، ان میں شامل ہیں۔صحت یا تعلیم سے متعلق علامت کا استعمال ترقی کی ایک پیمائش کے طور پر آمدنی کے ساتھ بڑے پیمانے پر کیا جانے لگا ہے۔مثال کے لیے UNDP کے ذریعے شائع کی گئی انسانی ترقیاتی رپورٹ لوگوں کی تعلیمی سطح، ان کی صحت سے متعلق صورتحال اور فی کس آمدنی کی بنیاد پر مختلف ملکوں کا موازنہ کرتی ہے انسانی ترقیاتی رپورٹ، 2015 سے ہندوستان اور اس کے پڑوسیوں کے بارے میں بعض متعلقہ مواد پر نظر ڈالنا دلچسپ ہوگا۔

© NCERT not to be republished

جدول 1.6 2017 کے ہندوستان اور اس کے پڑوسیوں سے

ملک	فی کس آمدنی امریکی ڈالر میں 2011	پیدائش پر امکان زندگی 2017	اسکول جانے کی اوسط عمر 2017	دنیا میں HDI کا شمار 2016
سری لنکا	11326	75.5	10.9	76
ہندوستان	6356	68.8	6.4	130
میانمار	5567	66.7	4.9	148
پاکستان	5331	66.6	5.2	150
نیپال	2471	70.6	4.9	149
بنگلہ دیش	3677	72.8	5.8	136

ماخذ: ہیومن ڈولپمنٹ رپورٹ، 2020

نوٹ: 1- Human Development Index,HDI (انسانی ترقیاتی اشاریہ) کا مخفف ہے۔اوپر دیئے گئے جدول میں HDI اشاریہ کا نمبر شمار کل 189 ملکوں میں سے ہے

2- پیدائش پر امکان زندگی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ پیدائش کے وقت کسی فرد کی زندگی کی اوسط متوقع عمر کی تعبیر کرتی ہے۔

3- تین سطحوں کے مجموعی اندراج تناسب کا مطلب پرائمری اسکول، ثانوی اسکول اور سکینڈری اسکول کے بعد کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اندراج کی نسبت سے ہے۔

4- سبھی ملکوں کے لیے فی کس آمدنی کا شمار ڈالر میں کیا جاتا ہے تا کہ اس کا موازنہ کیا جاسکے۔ یہ اس طرح انجام دیا جاتا ہے کہ ہر ڈالر کے ذریعے کسی ملک میں اشیا اور خدمات کی ایک جیسی مقدار کو خرید ا جاسکے۔

کیا حیرت انگیز نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس کا ایک چھوٹا سا ملک سری لنکا ہر میدان میں ہندوستان سے کہیں آگے ہے اور دنیا میں ہمارے جیسے ایک بڑے ملک کا شمار اتنا کم تر ہے۔ جدول 1.6 سے یہ بھی ظاہر ہے کہ اگرچہ نیپال اور بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی ہندوستان کی تقریباً نصف سے بھی کم ہے تاہم وہ امکانیت زندگی اور شرح خواندگی میں پیچھے نہیں ہے۔

انسانی ترقیاتی اشاریہ (HDI) شمار کرنے کے لیے بہت سی اصلاحات کی تجویز دی گئی ہے اور بہت سے نئے اجزا کو انسانی ترقیاتی رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ لیکن ترقی کے ساتھ انسان کا سابقہ (Pre-fix) لگانے کے ذریعے یہ بات بہت واضح ہوجاتی ہے کہ ترقی میں کیا اہم ہے اور ایک ملک کے شہریوں کے ساتھ کیا واقع ہورہا ہے۔ یہ لوگ، ان کی صحت، ان کی فلاح بہبود یہی نہایت اہم ہے۔

کیا آپ کے خیال میں کچھ دیگر پہلو بھی ہیں انسانی ترقی کی پیائش کے لیے جن پر غور کیا جانا چاہیے۔

ترقی کی قائم پذیری یا تحفظ پسندانہ ترقی

ہم ترقی کی تعریف کسی بھی انداز میں کرسکتے ہیں۔ بالفرض یہ پیش کرنے کے لیے کہ فلاں ملک کافی ترقی یافتہ ہے۔ ہمیں یقیناً ترقی کی یہ سطح پسند ہوگی کہ وہ مزید آگے بڑھے یا آنے والی نسلوں کے لیے کم سے کم اسے برقرار رکھے۔ یہ یقیناً پسندیدہ ہوگا۔ تاہم چونکہ بیسویں صدی کے دوسرے نصف سے متعدد سائنس داں یہ تنبیہہ کرتے رہے ہیں کہ ترقی کی موجودہ قسم اور سطح قابل برقرار نہیں ہے۔

''ہم نے دنیا کو اپنے آباواجداد سے ترکے میں نہیں حاصل کیا ہے بلکہ ہم نے اسے اپنے بچوں سے واپسی کے وعدے پر عاریتہً لیا ہے۔''

© NCERT not to be republished

آیئے سمجھیں کہ درج ذیل مثال کیوں اتنی قابل غور ہے۔



مثال 1: ہندوستان میں زمین دوز پانی

''اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ملک کے بہت سے حصوں میں زمین دوز پانی کے معمول سے زیادہ استعمال کا زبردست اندیشہ ہے۔ تقریباً 300 اضلاع کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ پچھلے 20 برسوں کے دوران پانی کی سطح 4 میٹر سے زیادہ گھٹی ہے۔ تقریباً ایک تہائی ملک اپنے زمین دوز پانی کے مخزن کا ضرورت سے زیادہ استعمال کررہا ہے۔ اگلے 25 سالوں میں ملک کا یہی 60 فی صد حصہ عمل انجام ہوگا۔ اگر ان وسائل کے استعمال کرنے کا موجودہ طریقہ جاری رہتا ہے۔ تو زمین دوز یا تہ نشین پانی کا معمول سے زیادہ استعمال بالخصوص پنجاب اور مغربی اتر پردیش کے زرعی طور پر خوشحال علاقوں، مرکزی اور جنوبی ہندوستان کے سخت چٹانی پٹھاری علاقوں، کچھ ساحلی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور شہری بستیوں میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔

a) زمین دوز پانی کا معمول سے زیادہ استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟

b) زائد استعمال کے بغیر کیا ترقی ممکن ہے؟

زمین دوز پانی قابلِ تجدید وسائل کی ایک مثال ہے ان وسائل کو قدرتی طور پر پھر سے پُر کیا جاسکتا ہے جیسا کہ فصلوں اور پودوں کے معاملے میں ہے۔ تاہم ان وسائل کا زائد استعمال بھی کیا جاسکتا ہے۔مثال کے لیے زمین دوز پانی کا معاملہ ہے اگر ہم اس کا استعمال اس سے زیادہ کرتے ہیں جس کی بھرپائی بارش کے ذریعے ہوتی رہتی ہے تو ہم ان وسائل کا استعمال معمول سے زیادہ کررہے ہیں

ناقابل تجدید وسائل وہ ہیں جو برسوں استعمال کے بعد ختم ہوجائیں گے۔ زمین پر ہمارے پاس ایک مقررہ ذخیرہ ہے جن کی پھر سے بھرپائی نہیں کی جاسکتی۔ ہم نئے وسائل کی دریافت کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔اس طرح وسائل ذخیرے میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔تاہم وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ختم ہوجائیں گے۔

مثال کے طور پر خام تیل جو ہم زمین سے نکالتے ہیں ایک ناقابل تجدید وسیلہ ہے۔ تاہم ہم ایک ایسا وسیلہ دریافت کرسکتے ہیں جسے ہم پہلے نہیں جانتے تھے، تلاش و جستجو کا کام ہمیشہ انجام دیا جاتا رہا ہے۔

مثال 2: قدرتی وسائل کے ختم ہونے کی حالت

خام تیل کے لیے درج ذیل مواد پر نظر ڈالیں

جدول 1.7 خام تیل کے ذخائر

خطہ/ملک	ذخائر (2016) (ہزار ملین بیرلس)	برسوں کی تعداد جب ذخائر ختم ہوں گے
مشرق وسطیٰ	807.7	70
ریاست ہائے متحدہ امریکا	50	10.5
دنیا	1696.6	50.2

ماخذ: بی پی اسٹیٹسٹیکل ریویو آف ورلڈ انیرجی، جون 2018

اس جدول سے خام تیل کے ذخائر (کالم 1) کا اندازہ ہوتا ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خام تیل کا ذخیرہ کتنے برسوں تک چلے گا اگر لوگ موجودہ شرح پر اسے نکالتے رہیں۔ یہ ذخائر صرف 50 سال تک مزید چل پائیں گے۔ یہ مجموعی طور پر پوری دنیا کا معاملہ ہے۔ تاہم مختلف ملکوں کی صورتحال الگ الگ ہے۔ ہندوستان جیسے ممالک باہر سے تیل منگانے (درآمد) پر منحصر ہیں کیونکہ اس کے پاس اپنے خود کے ذخائر نہیں ہیں۔ اگر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تب یہ ہر ایک کے لیے ایک بوجھ سا بن جاتا ہے۔ یو ایس اے (ریاست ہائے متحدہ امریکا) جیسے مما لک میں کم ذخائر ہیں اور اسی لیے وہ فوجی یا معاشی قوت کے ذریعے تیل کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔

ترقی کی قائم پذیری یا اسے تحفظ پسندانہ بنانے کا سوال قدرت اور ترقی کے عمل کے بارے میں بنیادی طور پر بہت سے نئے مسائل کو جنم دیتا ہے۔

(a) کیا کسی ملک میں ترقیاتی عمل کے لیے کیا خام تیل ضروری ہے؟ بحث کیجیے۔

(b) ہندوستان کو خام تیل کی درآمد کرنی ہوتی ہے، آپ درج بالا صورتحال پر نظر ڈالتے ہوئے ملک کے لیے کن مسائل کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟

© NCERT not to be republished

ماحولیاتی تنزلی کی صورتحال کے نتائج کا تعلق، کسی قومی ریاستی سرحد سے نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نہ تو کسی خطے کا ہے نا ہی کسی مخصوص ملک کا۔ ہمارا مستقبل ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ترقی کو تحفظ پسندانہ بنانا وقتاً فوقتاً علم کا ایک نیا میدان ہے جس پر سائنس داں، ماہرین معاشیات، فلسفی اور دیگر سماجی سائنس داں مل جل کر کام کر رہے ہیں۔

بالعموم، ترقی یا بہتری کی طرف بڑھنے کا سوال ہمیشہ سے قائم ہے۔ سماج کے ایک ممبر کے طور پر اور ایک فرد کی حیثیت سے ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں۔ ہم کیا بننا چاہتے ہیں اور ہمارے مقاصد کیا ہیں۔ اس طرح ترقی پر مباحثہ جاری رہتا ہے۔

مشقیں

-1 کسی ملک کی ترقی عام طور پر متعین ہوتی ہے۔

a) اس کی فی کس آمدنی کے ذریعے

b) اس کی اوسط سطح خواندگی کے ذریعے

c) وہاں کے لوگوں کی صحت کی حالت کے ذریعے

d) ان سبھی کے ذریعے

-2 انسانی ترقی کے معنی میں ان میں سے کون سے پڑوسی ملک کی کارکردگی ہندوستان کی نسبت زیادہ بہتر ہے؟

(i) بنگلہ دیش

(ii) سری لنکا

(iii) نیپال

(iv) پاکستان

-3 فرض کیجیے ایک ملک میں چار خاندان ہیں۔ ان خاندان کی اوسط فی کس آمدنی 5,000 روپیے ہے اگر تین خاندانوں کی آمدنی 4,000 روپیے ہے۔ 7,000 روپیے اور 3,000 روپیے ہیں تب چوتھے خاندان کی آمدنی کیا ہے؟

i) 7,500 روپیے

ii) 3,000 روپیے

iii) 2,000 روپیے

iv) 6,000 روپیے۔

-4 مختلف ملکوں کی درجہ بندی کرنے میں عالمی بینک کے ذریعے استعمال کی جانے والی اہم کسوٹی یا معیار کیا ہے؟ اس کسوٹی کی حدیں کیا ہیں؟ (اگر ہیں تو)

-5 ترقی کی پیمائش کے لیے UNDP کے ذریعے استعمال کی جانے والی کسوٹی کس لحاظ سے عالمی بینک کے ذریعے استعمال کی جانے والی کسوٹی سے مختلف ہے؟

-6 ہم اوسط کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان کے استعمال کی کوئی حد ہیں؟ ترقی سے متعلق اپنی خود کی مثالوں کے ساتھ اسے سمجھائیے۔

© NCERT not to be republished

7- کیرل جس کی فی کس آمدنی کم ہے، اس کی انسانی ترقی کا شمار ہریانہ کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ لہذا فی کس آمدنی ایک مفید کسوٹی تو بالکل نہیں ہے اور ریاستوں کے موازنے میں ان کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ بحث کیجیے۔

8- ہندستان میں لوگوں کے ذریعے استعمال کی جانے والی توانائی کے موجودہ وسائل دریافت کیجیے۔ آج سے پچاس سال کے بعد کیا امکانات ہوسکتے ہیں؟

9- ترقی کے لیے قائم پذیری یا تحفظ پسندی کا مسئلہ کیوں اہم ہے؟

10- کرہ ارض میں سبھی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی وسائل موجود ہیں لیکن ایک فرد کی حرص کی تسکین کے لیے کافی نہیں ہیں۔ یہ بیان ترقی کے موضوع پر بحث سے کس طرح متعلق ہے؟ بحث کیجیے۔

11- ماحولیاتی تنزلی کی کچھ مثالوں کی فہرست بنایئے جن کا مشاہدہ آپ اپنے اردگرد کرتے رہے ہوں۔

12- جدول 1.6 میں دی گئی مدوں میں ہر ایک کے لیے دریافت کیجیے کہ کون سا ملک سب سے اوپر ہے اور کون سا سب سے نچلی سطح پر ہے۔

13- درج ذیل جدول ہندوستان میں (15-49 سال کی عمر والے) جن کی بالغوں کے کم یا ناقص تغذیہ کا اظہار کرتا ہے۔ یہ سال 2015-16 کے لیے مختلف ریاستوں کے سروے (BMI<18.5 kg/m²) BMI اوسط سے کم ہے۔ جدول پر نظر ڈالیں اور درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔

ریاست	مرد%	عورت%
کیرل	85	10
کرناٹک	17	21
مدھیہ پردیش	28	28
سبھی ریاستیں	20	23

ماخذ: نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 2016-14 http://rchiips.org

(i) کیرل اور مدھیہ پردیش میں لوگوں کی تغذیاتی سطح کا موازنہ کیجیے۔

(ii) کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک میں ہر پانچ میں سے ایک آدمی ناقص تغذیہ کا شکار ہے اگرچہ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ملک میں کافی غذا دستیاب ہے۔ اپنے خود کے الفاظ میں بیان کیجیے۔

اضافی پروجیکٹ/سرگرمی

تین مختلف مقررین کو مدعو کیجیے جو آپ کے خطے کی ترقی کے بارے میں آپ سے بات کرسکیں۔ ان سے وہ سبھی سوالات پوچھیں جو آپ کے ذہن میں آرہے ہوں۔ ان خیالات پر گروپوں میں بحث کیجیے۔ ہر گروپ کو ایک وال چارٹ تیار کرنا چاہیے جس میں ان خیالات کے بارے میں اسباب بتائے جائیں اور یہ کہ آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں۔

© NCERT not to be republished